

گوانتانامو بے کا قیدی

نوراسلم خان °

گوانتانامو بے، کیوبا کے جنوب مشرق میں واقع ایک ۴۵ مربع میل جزیرے کا نام ہے۔ ۱۹۰۳ء میں امریکا نے اس جزیرے کو کیوبا سے اجارے پر لے کر یہاں ایک بحری فوجی اڈا قائم کیا جو تاحال قائم ہے۔

تین الیون کے سانحے کے بعد ہر اس فرد کو جو انصاف اور امن پر یقین رکھتا تھا، یہ امید تھی کہ امریکی حکومت سائنسی بنیادوں پر اس جرم کی تفتیش کرے گی، مکمل ثبوتوں اور شہادتوں کی روشنی میں ملزموں کو صفائی کا پورا موقع دے گی اور جرم ثابت ہونے پر قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ اب پانچ سال بعد جو حقائق سامنے آرہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، اور ایسا کیوں ہوا کہ تین الیون کے وقوع کے چند لمحوں بعد امریکا کے صہیونی نواز میڈیا نے اعلان کر دیا کہ اس واقعے میں مسلمان ملوث ہیں، اور دو تین روز بعد امریکی صدر جارج بش نے اسلام کو نشانے پر لے کر صلیبی جنگوں کا اعلان کر دیا (بعد میں اس جنگ کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کا نام دیا گیا)۔ ساتھ ہی تباہی و بربادی، آگ اور خون اور ظلم و بربریت کا ایک نہ ختم ہونے والا ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیا گیا کہ دنیا تین الیون کو بھول گئی۔ چنگیز خان، ہٹلر، موسولینی، پول پٹ، ملا سوچ اور ایرل شیرون جیسے سکہ بند قاتل صدر بش کے سامنے بونے نظر آنے لگے۔

مسٹر بش کی اس شہرت میں یوں تو بہت سے واقعات اور کرداروں نے اہم کردار ادا کیا

ہے، لیکن اس کی سرپرستی میں چلنے والے بدنام زمانہ قید خانے گوانتانامو بے کو انسانیت کی تذلیل کے حوالے سے اہم مقام حاصل ہے۔

اس قید خانے کے تنگ و تاریک عقوبت خانوں اور اس سے قبل قہار اور باگرام کے مذبح خانوں میں، سورج کی روشنی اور تازہ ہوا کی لمس محسوس کیے بغیر زندگی کے تین سال گزار کر آنے والے ایک پاکستانی نژاد برطانوی مسلمان معظم بیگ کی یادداشتوں پر مبنی ایک جامع خودنوشت* کا یہاں مختصر مطالعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ کتاب، ایک تاریخی دستاویز ہے۔ پاکستان میں کئی قیدی واپس آئے ہیں لیکن ابھی تک کسی نے اس نوعیت کی خودنوشت شائع نہیں کی ہے۔

اس کتاب کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ مصنف کے ساتھ پہلے دن سے لے کر آخری روز تک جو کچھ گزری، اس کو اس نے پوری جرأت اور دانش سے قلم بند کر دیا ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امریکا اور ان کے اتحادیوں کی نظر میں مشکوک بننے کے بعد وہ کیسے چند اوروں کے عوض بیچا گیا، پھر اسلام آباد، قہار اور باگرام میں کس کس انداز سے 'روشن خیال' مسلم حکمرانوں کی عزت افزائی کا مستحق ٹھہرا۔ ساتھ ہی ان ممالک میں متعین امریکی فوجیوں کی ذہنیت سے بھی واقفیت حاصل ہوتی ہے۔

مصنف کے آباؤ اجداد پاکستانی تھے۔ ان کے والد برطانیہ میں ایک بنک کار کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ گھر میں ایک علمی اور ادبی ماحول میسر آنے اور اچھی تربیت پانے کی وجہ سے معظم کی علمی استعداد ہمیشہ سے نمایاں رہی اور وہ معاشرے اور ہم جویوں میں پائی جانے والی بہت سی برائیوں سے بچ گیا۔ مصنف میں تبدیلی کے لیے جن واقعات نے اہم کردار ادا کیا، ان میں "Paki Go Home" جیسے اشتعال انگیز نعرے، نیشنل فرنٹ کے گوروں کے ہاتھوں ایشیائی باشندوں کی بلا وجہ مار پیٹ، اور پردہ یا حجاب میں ملبوس مسلمان خواتین کے ساتھ بدتمیزی کے مشاہدات شامل تھے۔

☆ Enemy Combatant: A British Muslim's Journey To Guantanamo and Back, The Free Press, Simon & Schuster UK Ltd., Africa House, 64-78 Kingsway, London, WC2B 6AH, UK. Pages 395, Price: £18.99. Website: www.simonsays.co.uk

اپنی تاریخ اور شناخت کی خاطر وہ ایک دن سکول میں پہننے والی جیکٹ پر پاکستان کا سبز ہلالی جھنڈا سلواتا ہے جس کو دیکھ کر استاد حکم دیتا ہے کہ اسے جیکٹ سے اتار دو لیکن وہ استاد کا یہ ناجائز مطالبہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ مصنف نے اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ اس کے اندر ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی حمایت کے لیے آواز بلند کرنے کی خوبی بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ اس کے دل میں فلسطین کی گلیوں میں اسرائیل کے دیوہیکل ٹینکوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے والے گنہگار اور معصوم کرداروں کے لیے بڑا احترام ہے۔

بچپن میں وہ اسلام پر عمل کرنے میں اس قدر فعال دکھائی نہیں دیتا لیکن ۹۰ کے عشرے کے آغاز میں پہلی خلیجی جنگ اور بوسنیا ہرزیگووینا میں ہونے والے قتل عام پر امریکا، مغرب اور بالخصوص برطانیہ کی سردمہری اور خاموشی اس کے ضمیر کو بیدار کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اب وہ ایک ایسے دورا ہے پر کھڑا ہے کہ جہاں ضمیر یا اپنے وطن برطانیہ میں سے کسی ایک کو انتخاب کرنے کا سوال ہے۔ بالآخر وطنیت کے مقابلے میں ضمیر جیت جاتا ہے اور وہ پاکستان آتا ہے۔ کچھ دوستوں کے ساتھ جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ کو دیکھتا ہے اور اپنے منصوبے کے مطابق افغانستان جاتا ہے۔ وہاں پر کشمیری مجاہدین کے ایک تربیتی مرکز الفجر میں کچھ دن گزارتا ہے۔ یہاں پر کشمیری مہاجرین اس کو بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیر میں پیدا ہونے والی خوف ناک صورت حال اور اس بارے میں اقوام متحدہ کی خاموشی کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں۔

مصنف یہاں پر تربیت پانے والے لوگوں کے سادہ طرز زندگی اور اسلام سے والہانہ محبت سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ بوسنیا کے مسلمانوں کی عملی مدد کے لیے کئی بار ادویات اور اشیائے خورد و نوش لے کر جاتا ہے۔ وہاں پر ہونے والی تباہی اور بربادی کا بہ چشم خود مشاہدہ کرتا ہے۔ بوسنیا کی مسلمانوں کی مدد کے لیے دنیا بھر سے آئے ہوئے مجاہدین سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور بعد میں امن معاہدے کے باوجود سرب اور کروئس کے مقابلے میں بوسنیا کا دفاع کرنے والے کمانڈروں کو ایک ایک کر کے قتل کرنے کے واقعات اس کی زندگی پر دور رس اثرات ڈالنے کا باعث بنتے ہیں۔ پھر روس کے ہاتھوں چیچنیا میں جاری کشت و خون کے بارے میں جان کر وہ اپنے ایک دوسرے دوست کے ہمراہ کچھ نقدی اور سامان لے کر ترکی کے راستے چیچنیا جانے کی کوشش کرتا ہے

لیکن جار جیا کی سرحد سے واپس کر دیا جاتا ہے۔ وہاں سے چیچنیا کے وزیر خارجہ کے ہاتھ عطیات بھجوا کر ترکی سے واپس برطانیہ آتا ہے۔

اب وہ افغانستان میں بچیوں کے لیے کچھ اسکول کھولنے کے ساتھ ساتھ پینے کے لیے صاف پانی کی فراہمی کی غرض سے دستی نلکے لگانے، کنویں کھودنے اور زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے بڑی بڑی مشینیں لگانے جیسے فلاحی کاموں کی طرف پوری یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ برطانیہ میں دیگر دوستوں کے ساتھ مل کر عطیات جمع کرتا ہے۔

۲۰۰۱ء کے وسط میں وہ اپنے بیوی بچوں سمیت برمنگھم سے کابل منتقل ہوتا ہے تاکہ رفاہی منصوبوں کی براہ راست نگرانی کی جاسکے۔ اسی دوران ورلڈ ٹریڈ سنٹر کا سانحہ ہوتا ہے اور تقریباً چند ہفتوں بعد افغانستان امریکی بم باری کی زد میں آ جاتا ہے۔ وہ بم باری اور حملوں کے خوف سے اپنے بچوں کو لوگر لے کر آتا ہے اور پھر تین ہفتے کے لیے وہ اپنے بیوی بچوں سے چھڑ جاتا ہے۔ بالآخر بڑی مشکل سے ان کے بیوی بچے کسی نہ کسی طریقے سے اسلام آباد پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر وہ ایک گھر میں قیام کر لیتا ہے، جہاں سے کچھ مہینوں کے بعد رات کی تاریکی میں امریکی اور پاکستانی خفیہ اداروں کے اہلکار اسے اغوا کر کے کچھ وقت کے لیے پاکستان میں رکھتے اور پھر افغانستان میں واقع ایک تفتیشی مرکز قندھار منتقل کر دیتے ہیں، جہاں سے وہ باگرام اور پھر وہاں سے گوانتانامو بے پہنچا دیا جاتا ہے۔

گوانتانامو بے کا یہ قید خانہ بنیادی طور پر تین بڑے بڑے حصوں پر مشتمل ہے: پہلا حصہ کیپ ڈیلٹا (Delta) ہے۔ یہ سب سے بڑا اور مرکزی کیپ ہے جس کو فوری سے لے کر اپریل ۲۰۰۲ء کے درمیان تعمیر کیا گیا۔ اس میں قیدیوں کو رکھنے کے لیے چھ بڑے ہال اور کیپ ایکو (Echo) کے نام سے ایک الگ قید خانہ ہے۔ ایکو کیپ میں رکھے جانے والے قیدی کو صرف اپنی آواز کی گونج کے علاوہ کسی اور ذی روح کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اس میں کسی کھڑکی کے بغیر کنکریت سے بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی بنجرہ نما کونٹھریاں ہوتی ہیں، جس میں ایک عام قد و قامت والے انسان کے لیے سہولت کے ساتھ کھڑا ہونا، بیٹھنا، یا لیٹنا ممکن نہیں رہتا۔ ہر کونٹھری میں لوہے کی چھوٹی سی چارپائی اور ایک ٹائلٹ ہوتا ہے۔ ان کونٹھریوں میں دن رات تیز روشنی ہوتی ہے۔ یہاں

پر صرف ایسے انتہائی اہم قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جن کو امریکی صدر کے حکم سے جیل میں لگنے والی خصوصی فوجی عدالت کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ نیز یہاں پر قیدیوں کو غیر سرکاری وکلا سے رابطے کی اجازت ہوتی ہے۔ مصنف نے، گوانتانامو بے میں دو سال اسی کیمپ ایکو میں گزارے۔ اس قید خانے میں بڑے سخت فوجی قوانین نافذ ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر سرے سے کوئی قانون نہیں ہوگا۔ یہاں پر لائے جانے والے ہر فرد کو انسان کے بجائے گندی نالے کے کیڑے سے زیادہ بدتر، سانپ سے زیادہ خطرناک اور ایک چھپکلی سے زیادہ کم تر سمجھا جاتا ہے۔

کیمپ ایگوانا (Iguana) نسبتاً چھوٹا کیمپ ہے اور بڑے مرکزی کیمپ کے حدود میں سمندر کی جانب تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس میں یا تو چھوٹی عمر کے قیدیوں رکھا جاتا ہے، یا پھر ان قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جن کو فوجی کمیشن 'کم خطرناک' یا بالکل بے گناہ قرار دے چکے ہوتے ہیں۔ ان کو نہ تو امریکا جانے کی اجازت ہوتی ہے اور نہ بعض قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے اپنے آبائی وطن بھیجا جاسکتا ہے۔ گویا ان کو یہاں پر قانونی طور سے معلق کر کے رکھا جاتا ہے۔

کیمپ ایکسرے (X-Ray) تشدد اور بربریت کے لیے مشہور ہے جس میں چھ سات سو کے درمیان قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ جولائی ۲۰۰۳ء میں یہاں ۶۸۰ قیدی موجود تھے۔ یہاں پر کسی بھی قیدی کو اپنے وکیل سے ملنے کی اجازت نہیں۔ ان قیدیوں کو لمبے عرصے تک جاگنے پر مجبور کرنا، سخت گرمی یا سردی میں رکھنا، کان کے پردے پھاڑنے والے شور میں رکھنا، بدترین جسمانی تشدد کے مختلف طریقوں سے گزارنا، الٹا لٹکا کر تیز روشنی میں رکھنا، عزت نفس کو مجروح کرنے کی مختلف تراکیب آزمانا اور اس جیسی دیگر بے شمار ذہنی دینا شامل ہیں۔

اس کتاب سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جاری اس جنگ کا نہ تو کوئی نصب العین ہے اور نہ امریکا اور اس کے اتحادی کسی اصول اور ضابطے کے پابند ہیں۔ جس اہم موضوع پر مصنف نے زیادہ زور دیا ہے وہ اس جنگ کی قانونی حیثیت، 'قدہار' باگرام اور گوانتانامو بے میں تسلسل کے ساتھ جاری انسانیت کی توہین، اور جینو کنونشن کی بے دھڑک پامالی ہے۔ مصنف کا قدہار اور باگرام میں جن قیدیوں سے ملنا ہوا ہے، تقریباً ان سب میں یہ قدر مشترک پائی جاتی ہے کہ ان کو یا تو محض 'شک' شہادت (شلوار قمیص، واڑھی اور پکڑی) کی بنا پر

دھریا گیا، یا پھر افغانستان کے مختلف سرداروں اور پاکستان کے خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں نے ان کو ڈالر بنانے کے چکر میں اُن کے اپنے گھروں سے، راستوں سے، بازاروں سے یا خدمت خلت کے مراکز سے کسی ثبوت کے بغیر، عمر، صحت، جنس، مذہب، رنگ، نسل، زبان، علم، امن پسندی پر مبنی سابقہ کردار اور شجرہ نسب دیکھے بغیر، اس حالت میں اُٹھایا کہ ان کے قریبی رشتہ داروں تک کو ان کے مردہ یا زندہ ہونے کے بارے میں ہفتوں، مہینوں اور برسوں تک کوئی خبر نہیں ملی۔ گرفتار کرنے کے بعد ان سب کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا کر مکمل طور پر یا نیم برہنہ کر کے آنکھوں پر پٹی کس دی جاتی ہے اور پھر ہاتھ پاؤں باندھ کر بڑے بڑے دیوہیکل فوجی جہازوں میں بھیڑ بکریوں کی طرح ایک دوسرے سے باندھ کر قندھار یا باگرام پہنچا دیا جاتا ہے۔

مصنف لکھتا ہے کہ جب مجھے قندھار ائر پورٹ پر اتارا گیا تو منہ پر بندھی ہوئی پٹی کی وجہ سے مجھے سانس لینے میں سخت دقت پیش آرہی تھی۔ اس لیے میں نے ایک سپاہی سے اپیل کی کہ وہ پٹی ڈھیلی کر دے۔ جب وہ سپاہی پٹی ڈھیلی کر دیتا ہے تو میں احساسِ تشکر کی وجہ سے اس کو 'شکریہ' کہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ فوجی غراتا ہوا واپس آتا ہے۔ مجھے تنگی گالی بکتا ہے اور پٹی کو پہلے سے بھی سخت کس کر کہتا ہے کہ "کمزوری دکھا کر تمہیں میری ہمدردی لینے کا کوئی حق نہیں۔"

قندھار اور باگرام پہنچتے ہی فوجی وردیوں میں ملبوس، سوچنے کی صلاحیت سے مکمل طور پر عاری، عیسائی اور یہودی مذہبی جنونی، ان بے گناہ قیدیوں کی چمڑی ادھیڑنے یا تنکے بوٹی کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی یہ قیدی جہاز سے اتارے جاتے ہیں، سب کو سر یا داڑھی کے بالوں سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹا جاتا ہے، پسلیوں میں پاؤں کی ٹھوکریں ماری جاتی ہیں، جسم کے نازک حصوں پر پلاسٹک کی موٹی موٹی لٹھیوں سے ضربیں لگائی جاتی ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں، خوف سے سہمے ہوئے ان قیدیوں کے سامنے اسلامی شعائر تو کیا خدا، قرآن اور رسول کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ قندھار ائر پورٹ پر اتارتے ہی جو امریکی حجام میرے سر کے بال مونڈ رہا تھا وہ جب میری داڑھی مونڈنے لگا تو کہنے لگا۔ "اے مونڈتے ہوئے مجھے زیادہ مرا آتا ہے۔"

ایک قیدی اپنی پنجرہ نما کوٹھڑی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ایک امریکی سارجنٹ نے اُس کو کوئی حکم دیا، لیکن وہ نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے اس پر فوراً عمل نہ کر سکا تو اس امریکی فوجی نے

نمازی کو سر کے بالوں سے پکڑ لیا اور کوٹھڑی کے آخری کونے تک گھسیٹا ہوا لے گیا اور چیختے ہوئے کہا: ”مگدھے کے بچے! اب تم میری عبادت کرو گے۔ ادھر میں ہی تمہارا خدا ہوں۔“ اسلام سے ان کو کس قدر بغض، کینہ اور عناد ہے، اس کی بڑی مثال یہ تھی کہ ان بد بختوں نے رفع حاجت کے لیے استعمال ہونے والی عمارت پر جلی حروف سے لکھا ہوا تھا: "Fuck Islam"

قیدیوں کی عزت نفس مجروح کرنے کے لیے تلاشی کے بہانے قیدیوں کی شرم گاہوں پر تشدد کیا جاتا اور آپس میں فحش گفتگو کی جاتی ہے۔ مادرزاد ننگا کر کے ہر قیدی کی مختلف سمتوں سے تصویریں بنائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات کچھ تصویریں یہ فوجی اپنے دوستوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے محض اپنی بہادری کے ثبوت، یعنی ثرائی کے طور پر دکھانے کے لیے ارسال کرتے ہیں۔ یہ قیدی جو پرانی عورتوں سے بات کرنے میں شرم اور حیا محسوس کرتے ہیں، ان کو ذلیل کرنے کے لیے ان کے ساتھ فاحشہ فوجی عورتوں کو ایسی فحش حرکتیں کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، جس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس تشدد اور توہین کے نتیجے میں کچھ قیدی جان سے چلے جاتے ہیں، کچھ دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں، کچھ اپنے بچوں اور رشتہ داروں سے دوبارہ ملنے کی موہوم سی امیدوں کے سہارے اپنے ناکردہ جرائم کا اقرار کر لیتے ہیں، اور کچھ مصنف کی طرح صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

ایک دفعہ سی آئی اے کا ایک ایجنٹ مصنف کو جیل سے رہائی دلانے کے ساتھ ساتھ مالی منفعت کا لالچ دے کر سی آئی اے کے لیے کام کرنے کی پیش کش کر کے چند دن بعد جواب دینے کے لیے کہتا ہے۔ مصنف اس فیصلے پر پہنچتا ہے کہ یہ ایک آزمائش اور عقیدے کا امتحان ہے۔ اس امتحان کو پاس کر کے ہی آزادی ملے گی۔ فیمل ہونے کی صورت میں سب کچھ ہاتھ سے جائے گا، خاندان، وقار، عزت نفس اور آخرت۔ پھر وہ قرآن میں سورۃ الممتحنہ (آزمائش) کی ان آیات کو تصور میں لاتا ہے، جن کا وہ صبح شام ورد کرتا رہتا ہے: ”تم جہاں بھی ہو گے، موت تمہیں پا کر رہے گی،“ یعنی دنیا کی یہ زندگی تو چند دن کی عارضی زندگی ہے اور انسان اس زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اس پر اس کی آخرت کا دار و مدار ہے۔ اللہ فرماتا ہے: ”اے ایمان لانے والو! میرے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ کیا تم ان سے اس حالت میں بھی دوستی کرو گے، جب کہ وہ تمہارے پاس پہنچی ہوئی سچائی کو ٹھکراتے ہیں۔“

گوانتانامو بے کے کیپ ایلو میں مصنف سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی فوج کا ایک

سپاہی کہتا ہے: ”معظم! جس طرح کا سلوک تم لوگوں سے روا رکھا گیا ہے اگر گرفتار ہو کر یہاں آنے سے قبل تم میں سے کوئی دہشت گردی میں ملوث نہیں بھی تھا تو مجھے یقین ہے کہ رہائی کے بعد وہ ضرور دہشت گرد بنے گا۔“

مصنف کے بقول چونکہ نہانے پر پابندی تھی اس لیے ان تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں ہفتوں بغیر نہائے رہنے کے نتیجے میں جسم سے بدبو آتی تھی جس کی وجہ سے امریکی ہم پرہیز کرنے کے لیے ہمیں بدبو دار لڑکے کہتے تھے۔ بعض قیدیوں کو ذلیل کرنے کے لیے اُن کو تنگ کمرے میں ایک وزنی لوہے کی زنجیر کے ساتھ یوں باندھ دیا جاتا کہ وہ رفع حاجت کے لیے سیل کے اندر بنی ہوئی لیٹرین تک بھی نہ پہنچ سکتے تھے۔ صرف ایک دائرے کے اندر جس حد تک حرکت ممکن تھی اسی جگہ کو سونے اور اجابت دونوں کے لیے استعمال پر مجبور تھے۔

قیدی افراد کو امریکی حکومت کی طرف سے جنگی قیدی کی حیثیت نہ دینے اور اس قید خانے پر امریکی عدالتوں کے قوانین کے نفاذ سے انکار کے موضوع پر بعض وکلا کی طرف سے اٹھائے جانے والے ایک دل چسپ نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مصنف لکھتا ہے: وکلانے امریکی سپریم کورٹ کے سامنے یہ موقف رکھا کہ اگر گوانتا ناموبے کے جزیروں پر رہنے والی جنگی چھپکلی Iguana (اس کے نام پر ایک قید خانے کا نام بھی رکھا گیا ہے) کے تحفظ کے لیے امریکی قوانین پر عمل درآمد کیا جاسکتا ہے تو پھر وہاں کسی فرد جرم کے بغیر قید کیے جانے والے انسانوں پر وہی قوانین کیوں لاگو نہیں کیے جاتے؟

اس کتاب کے آخر میں مصنف اپنے دوستوں اور بھی خواہوں اور سب سے بڑھ کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ ساتھ حق اور سچائی کے لیے آواز اٹھانے والے ان سب لوگوں کو سلام پیش کرتا ہے جنہوں نے آزمائش کی ان گھڑیوں میں اس کا ساتھ دیا اس کی حوصلہ افزائی کی اور انہی کی اُن تھک کوششوں سے اس کی رہائی ممکن ہو سکی۔

مصنف دنیا بھر میں پھیلے ہوئے انصاف پسند اور امن پسند لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہے کہ گوانتا ناموبے قندھار، باگرام اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے امریکی اتحادیوں کی نگرانی میں قائم خفیہ فوجی قید خانوں میں کسی فرد جرم کے بغیر گلے سڑنے والے قیدیوں کو نہ بھولیں۔